

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن کو ایک شاندار اور منفرد بجٹ پیش کرنے پر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے

برامپٹن، آن (21 مئی 2021) – سٹی آف برامپٹن کو متواتر پانچویں سال بھی امریکہ اور کینیڈا کی گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی ایشن (GFOA) کی جانب سے ڈسٹنگوئشڈ بجٹ پریزنٹیشن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔

یہ ایوارڈ سٹی آف برامپٹن کی شاندار کامیابیوں کا برملا اظہار کرتا ہے، جس سے بجٹ سازی میں حکومت کی جانب سے اعلیٰ ترین اصولوں پر عمل کرنے کے بھرپور عزم کی عکاسی ہوتی ہے ڈسٹنگوئشڈ بجٹ پریزنٹیشن ایوارڈ کے حصول کی کوشش کے دوران، سٹی کو مؤثر طور پر بجٹ پیش کرنے کی قومی سطح پر رائج رہنما ہدایات پر پورا اترنا پڑا، بشمول:

- ایک پالیسی دستاویز؛
- ایک مالیاتی منصوبہ؛
- ایک آپریشن گائیڈ؛ اور
- ایک کمیونیکیشنز ڈیوائس۔

اس ایوارڈ کے حصول کے لیے بجٹ دستاویزات کو تمام چار زمرہ جات اور 14 لازمی معیارات اصول میں شاندار کارکردگی کا حامل ہونا لازمی ہے۔ برامپٹن سٹی کونسل نے 2021 کا بجٹ 9 دسمبر 2020 کو منظور کیا تھا جس میں کونسل کی حالیہ پوری مدت کے دوران متواتر تیسری مرتبہ بھی پراپرٹی ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا جبکہ قومی ذخائر میں \$114 ملین کا ایک شاندار اضافہ بھی ہوا۔

GFOA کے بجٹ ایوارڈز پروگرام میں 1,600 سے زیادہ شرکاء شامل ہوتے ہیں۔ 500،20 سے زیادہ ممبروں کے لیے GFOA بہترین طریقہ ہائے کار، پیشہ ورانہ ترقی، وسائل اور عملی تحقیق کی فراہمی کے ذریعے سرکاری مالیات کو فروغ دینے میں شاندار کردار ادا کرتا ہے۔

اقتباسات

"گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہمارے 2020 بجٹ پر ڈسٹنگوئشڈ بجٹ پریزنٹیشن ایوارڈ جیتنا ہماری ایک زبردست کامیابی ہے، بالخصوص کووڈ-19 جیسی عالمی وباء کے تناظر میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایوارڈ ہماری مالیاتی شفافیت اور بہترین طرز حکمرانی کی نمایاں کامیابی کا مظہر ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر آف بجٹ کمیٹی

"یہ ہمارا پانچواں متواتر سال ہے کہ سٹی آف برامپٹن اس ممتاز ایوارڈ کے لیے درخواست دیتا ہے اور حاصل بھی کر لیتا ہے۔ بجٹ سازی باہمی تعاون کے ساتھ انجام دیا جانے والا ایک عمل ہے جہاں کونسل، عملہ، عوام اور کاروباری کمیونٹی کے ممبران اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے شہر کے مستقبل کی تشکیل میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے بجٹ کی واضح، شفاف اور معلوماتی دستاویز نے ہمیں یہ ایوارڈ جیتنے میں مدد دی ہے۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5 اور وائس چیئر، بجٹ کمیٹی

"حکومت کی بہترین بجٹ سازی پر یہ ایوارڈ موصول ہونے پر ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کامیابی برامپٹن کی ٹیم کی جانب سے شاندار خدمات کی فراہمی کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے اور یہ ایک اچھی طرح سے چلائے جانے والے شہر کی کوششوں کی بازگشت ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی



Media Release

جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca